



سوال

(28) وہیل چئیر پر مسجد آنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعض معذور حضرات وہیل چئیر (پہیہ دار کرسی) پر مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مساجد کو پاک صاف رکھنا ایک بنیادی حکم ہے اور مذکورہ اقسام کی کرسی کا مسجد میں لانا اصلاً جائز ہے لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آج کل مساجد میں قالین بچھائے جاتے ہیں اور مذکورہ کرسی کے پیسے چاہے پاک ہی کیوں نہ ہوں، اسلئے ساتھ کچھ کر دو غبار، مٹی اور رطوبت ضرور لاتے ہیں، اسلئے مسجد کے ذمہ دار حضرات اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک طرف تو معذور افراد کی دیکھنی کی جائے اور دوسری طرف ان کی سواری کی صفائی کا پورا بندوبست کیا جائے تاکہ مسجد کا قالین صاف رہے۔ مسجد کے ذمہ دار حضرات نگہبان کی حیثیت رکھتے ہیں اور نبی ﷺ کے فرمان کے مطابق انہیں مسجد میں حاضر ہونے والوں کی پوری پوری نگہداشت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«کلم راج وکلم متول عن رعیت»

”تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔“

حدیث امام احمدی والنداء علم بالصواب

فتاویٰ صراط مستقیم

نماز کے مسائل، صفحہ: 296

محدث فتویٰ